


PAiR Investment Company Limited

Account Application Form

اکاؤنٹ درخواست فارم



Customer / Client ID for COI

کسٹمر / کلائنٹ آئی ڈی برائے سی او آئی

For PAiR Use Only صرف PAiR کے استعمال کے لئے

Date تاریخ

Declaration

I/We wish to open an account with PAiR Investment Company Ltd. ("PAiR") for investment in Certificate of Investment ("COI's") of PAiR specified by us in writing from time to time. We agree to abide by the terms and conditions of the account and the COI's, as stated overleaf, which have been read and understood by me/us. I/We further agree to abide by any amendments to the said terms and conditions made by PAiR from time to time.

اقرار نامہ

میں / ہم PAiR انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے سرٹیفکیٹ ("COI's") میں سرمایہ کاری کے لئے، جس کی میری / ہماری طرف سے وقتاً فوقتاً تحریری توثیق کی جائے گی، PAiR انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ ("PAiR") کے پاس ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں۔ ہم اکاؤنٹ اور COI's سے متعلق شرائط و ضوابط کی پابندی کا اقرار کرتے ہیں، جو صفحے کے دوسری طرف درج ہیں، اور جو میں / ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے۔ میں / ہم PAiR کی طرف سے مذکورہ شرائط و ضوابط میں وقتاً فوقتاً کی جانے والی کسی ترامیم کی پابندی کرنے کو مزید اقرار کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

Customer Type کسٹمر کی نوعیت	<input type="checkbox"/> Individual انفرادی	<input type="checkbox"/> Joint مشترکہ	<input type="checkbox"/> Minor نابالغ	<input type="checkbox"/> Sole Proprietorship سول پروپرائٹرشپ	<input type="checkbox"/> Partnership شراکت داری
	<input type="checkbox"/> Private Limited پرائیویٹ لمیٹڈ	<input type="checkbox"/> Public Limited پبلک لمیٹڈ	<input type="checkbox"/> Trust وقف	<input type="checkbox"/> Others (وضاحت کیجئے)	

Account Type اکاؤنٹ کی قسم	<input type="checkbox"/> COI	On Maturity of COI			
		<input type="checkbox"/> Roll over principal with profit	<input type="checkbox"/> Roll over principal	<input type="checkbox"/> Will be indicated upon Maturity	<input type="checkbox"/> Other (Specify) _____

Tenor of COI سی او آئی کی مدت	<input type="checkbox"/> 1 Month (Minimum 30 Days)	<input type="checkbox"/> 2 Months	<input type="checkbox"/> 3 Months	<input type="checkbox"/> 6 Months	<input type="checkbox"/> 1 Year
	<input type="checkbox"/> 2 Years	<input type="checkbox"/> 3 Years	<input type="checkbox"/> 4 Years	<input type="checkbox"/> 5 Years	<input type="checkbox"/> As per instruction _____

Title of Account اکاؤنٹ کا عنوان	
-------------------------------------	--

Name (In block letters & as given in CNIC /SNIC/Passport/NICOP/POC/ARC نام (بڑے حروف میں قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، نیکو پی سی او سی اور سی او آئی کے مطابق)	
Sole Proprietorship Name (In case of Sole Proprietorship)	

Father's /Husband's Name والد / شوہر کا نام	Mother's Name مادر کا نام
--	------------------------------

ID Type* شناخت کی نوعیت	ID No. شناختی نمبر	ID Expiry Date شناخت کی تاریخی منسوخی
----------------------------	-----------------------	--

*e.g. CNIC/SNIC/Passport/NICOP/POC/ARC مثلاً شناختی کارڈ، پاسپورٹ، نیکو پی سی او سی اور سی او آئی

Birth Information پیدائش کی معلومات	Date of Birth تاریخ پیدائش	City شہر	Country ملک
--	-------------------------------	-------------	----------------

Religion مذہب	Nationality قومیت	Other Nationality (if any) دیگر قومیتیں (اگر ہو)
------------------	----------------------	---

Gender جنس	Profession پیشہ	Other دیگر (وضاحت کیجئے)
---------------	--------------------	-----------------------------

Designation عہدہ	Department شعبہ	Employee Since مدت ملازمت
---------------------	--------------------	------------------------------

Organization / Employer سازم / ادارہ	Monthly Income PKR ماہانہ آمدنی	Other Income PKR دیگر آمدنی
---	------------------------------------	--------------------------------

Nature of Business کاروبار کی نوعیت	<input type="checkbox"/> Import / Export درآمد / برآمد	<input type="checkbox"/> Manufacturing مینوفیکچرنگ	<input type="checkbox"/> Agriculture زراعت	<input type="checkbox"/> Trading تجارت	<input type="checkbox"/> Other دیگر (وضاحت کیجئے)
--	--	--	--	--	---

Tax Filer ٹیکس دہندہ	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	National Tax No. (NTN) قومی ٹیکس نمبر (این ٹی نمبر)
-------------------------	---	--

Mailing Address ڈاک کا پتہ

Flat/ House/ Building Name & No. فلیٹ/ مکان/ بلڈنگ کا نام اور نمبر

Phone No. فون نمبر Mobile No. موبائل نمبر

Fax No. فیکس نمبر E-mail ای میل

Name (In block letters & as given in CNIC) نام /SNIC/Passport/NICOP/POC/ARC
(بڑے حرف میں قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، دیگر شناختی دستاویزات کے مطابق)

Father's/Husband's Name والد/شوہر کا نام Mother's Name ماں کا نام

ID Type* شناخت کی نوعیت ID No. شناختی نمبر ID Expiry Date شناخت کی تاریخی منسوخی

*e.g. CNIC/SNIC/Passport/NICOP/POC/ARC مثلاً شناختی کارڈ، پاسپورٹ، دیگر شناختی دستاویزات

Birth Information پیدائش کی معلومات Date of Birth تاریخ پیدائش City شہر Country ملک

Religion مذہب Nationality قومیت Other Nationality (if any) دیگر قومیتیں (اگر ہو)

Gender جنس Male مرد Female عورت Profession پیشہ Govt. Employee سرکاری ملازم Businessman کاروباری Private Service پرائیویٹ ملازمت Housewife خاتون خانہ Student طالب علم Self Employed Professional خود ساختہ پیشہ ور فرد Retired Person ریٹائرڈ فرد Other دیگر (مذاحت کیجیے)

Designation عہدہ Department شعبہ Employee Since مدت ملازمت

Organization / Employer تاجر/ادارہ Monthly Income PKR ماہانہ آمدنی Other Income PKR دیگر آمدنی

Nature of Business کاروبار کی نوعیت Import / Export درآمد/برآمد Manufacturing مینوفیکچرنگ Agriculture زراعت Trading تجارت Other دیگر (مذاحت کیجیے)

Sales Tax Reg. No. سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر (For Sole Proprietorship) (ذاتی کاروبار کے لئے) Membership No. of Chamber of Commerce / Trade Body ممبر شپ نمبر آف چیمر آف کامرس انڈیاڈی (ذاتی کاروبار کے لئے) (For Sole Proprietorship)

Tax Filer ٹیکس دہندہ Yes ہاں No نہیں National Tax No. (NTN) قومی ٹیکس نمبر (این ٹی نمبر)

Political Exposed Person سیاسی شخصیت Yes ہاں No نہیں Country of Residence ملک جہاں رہائش ہے

Mailing Address ڈاک کا پتہ

Flat/ House/ Building Name & No. فلیٹ/ مکان/ بلڈنگ کا نام اور نمبر

Phone No. فون نمبر Mobile No. موبائل نمبر

Fax No. فیکس نمبر E-mail ای میل

In case of more than two applicants, please use additional sheets. 2 سے زائد درخواست گزار کی صورت میں برائے مہربانی اضافی شیٹ استعمال کریں

Guardian Information (Only for Minor Accounts) سرپرست کی معلومات (صرف نابالغ کے اکاؤنٹ کے لئے)

Guardian Relationship with Minor (only for minor account) نابالغ کے ساتھ سرپرست کے رشتے کی نوعیت (صرف نابالغ کے اکاؤنٹ کے لئے) Legal قانونی Natural قدرتی Parent والدین

Relationship Details رشتے کی تفصیلات

Personal Information - (Only for Next of Kin) ذاتی کوائف - (صرف قریبی فرد رشتہ دار)

Name نام As per ID Documents شناختی دستاویزات کے مطابق

Father's/Husband's Name باپ/شوہر کا نام Mother's Name ماں کا نام

ID Type* شناخت کی نوعیت ID No. شناختی نمبر Relationship with Account Holder اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ رشتہ

Mailing Address - (Only for Next of Kin)

ڈاک کا پتہ (صرف قریبی فرد اشتہار)

Flat/ House/ Building Name & No.

فلٹ/ مکان/ بلڈنگ کا نام اور نمبر

Phone No. فون نمبر

Mobile No. موبائل نمبر

Fax No. فیکس نمبر

E-mail ای میل

Account Operating Instruction

کھاتہ استعمال کی ہدایت

Singly واحد مجاز **Jointly** مشترکہ **Either or Survivor** کوئی ایک یا باقی ماندہ **Any One of Us** ہم میں سے کوئی ایک
 Any Two of Us ہم میں سے کوئی دو **Other** (Please Specify) دیگر (وضاحت کریں) _____

Zakat Exemption زکوٰۃ سے استثنیٰ

Yes ہاں No نہیں (If 'Yes', please submit attested copy of affidavit/declaration form CZ-50
 (اگر "ہاں" تو برائے مہربانی حلف نامہ کی تصدیق شدہ کاپی، ڈیکلریشن فارم CZ-50 جمع کریں)

Reason for Zakat Exemption زکوٰۃ سے استثنیٰ کی وجوہات

Non-Muslim غیر مسلم Foreign National غیر ملکی Due to Fiqah فقہ Other دیگر _____

Tax Exemption ٹیکس سے استثنیٰ

Yes ہاں No نہیں

Mode of Transaction

Cheque RTGS (Prism)

If 'Yes', please submit Tax Exemption Certificate from FBR
 (اگر "ہاں" تو برائے مہربانی ایف بی آر سے ٹیکس استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ جمع کرائیں)

Payment of Return

نفع کی ادائیگی

Account Title اکاؤنٹ کا عنوان Bank Name بینک کا نام IBAN No. آئی بی این نمبر

Company Stamp

کمپنی کی مہر

Authorized Signature

منظور شدہ دستخط

Authorized Signature

منظور شدہ دستخط

Authorized Signature

صرف کمپنی کے استعمال کے لئے

For Company Use only

صرف کمپنی کے استعمال کے لئے

Checked by

جانچ کنندہ

Date

تاریخ

Approved by

منظور کنندہ

Date

تاریخ

Database updated By

ڈیٹا بیس اپ ڈیٹ کرنے والے کا نام

Section C

Limited Company Account لمیٹڈ کمپنی اکاؤنٹ

سیکشن سی

Registration/Incorporation Number of Business Registration No.: _____ Date: _____
رجسٹریشن/انکارپوریشن نمبر برنس رجسٹریشن نمبر تاریخ

Registered or Business Address: _____
رجسٹرڈ یا کاروباری پتہ

Place of Incorporation or Registration: _____ National Tax Number (NTN): _____
قیام یا رجسٹریشن کا مقام نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)

Resolution of Board of Directors: بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد

We hereby certify that the following resolution of Board of Directors of

ہم بذریعہ تصدیق کرتے ہیں کہ درج ذیل قرارداد منتخب بورڈ آف ڈائریکٹرز

was passed at a meeting of Board held on the _____ day of _____ 20
_____ and has been duly entered in the Minutes book and signed therein by the Chairman of the
meeting, and is in accordance with Articles of Association of the aforesaid Company,

کی طرف سے بورڈ کے اجلاس منعقدہ بمقام _____ بتاریخ _____ 20 _____ میں منظور کی گئی
اور اسے اجلاس کی کارروائی میں باضابطہ طور پر شامل کیا گیا اور اجلاس کے سربراہ کی طرف سے اسے مندرجہ اور اس پر دستخط کیے گئے اور یہ مذکورہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق ہے۔

“Resolved * قرارداد پیش کی جاتی ہے *

That an account relationship for _____ (“The Company”) be established
with PAIR Investment Company Limited in connection with any dealing between the company an the PAIR and that PAIR be
and is hereby empowered to accept and act upon any instructions signed or made on behalf of the Company by

کہ _____ (“کمپنی”) اور PAIR انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے مابین ایک اکاؤنٹ ریلیشن شپ کمپنی اور PAIR کے مابین کسی
لیٹن دین کے لیے قائم کی جائے اور یہ کہ PAIR کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے درج ذیل افراد کی دستخط کردہ ہدایات قبول کریں اور ان پر عمل درآمد کریں:

(insert “any two of the directors and countersigned by the secretary for the time being” or otherwise as required and to act to
any instruction given by the person so authorized with regard to any matter or in relation to any transaction of the Company).

(“فی الوقت کسی دو ڈائریکٹرز کے نام سیکرٹری کے تصدیقی دستخط کے ساتھ“ یا بصورت دیگر داخل کریں یا جیسا کمپنی کے کسی لیٹن دین کے حوالے سے اختیار یافتہ کسی فرد کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے درکار ہو۔)

That the persons above named be and are hereby authorized to do all such acts, deeds and things as many as necessary or
incidental to carrying out the purposes aforesaid and executive all necessary instruments and documents as may be required
to be made with or in favor of PAIR and, subject to the regulation of the Articles of Association of Company regarding affiliation
of Commet seal of Company upon any or all of the instruemnts and documents executed on behalf of the Company,

کہ مذکورہ ناموں والے افراد کو بذریعہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ایسی تمام کارروائیاں، معاہدے اور امور سرانجام دیں جو مذکورہ مقاصد کی انجام دہی کے ضروری یا واقعاتی ہوں اور ایسے تمام ضروری تمسکات اور دستاویزات پر دستخط کریں جو PAIR
کے ساتھ یا حق میں درکار ہوں اور کمپنی کی مہر سے متعلق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ضوابط سے مشروط، کمپنی کی طرف سے کسی بھی یا تمام تمسکات اور دستاویزات پر مہر لگائیں اور عملی شکل دیں۔

That PAIR furnished with Certified Copies of: کہ PAIR کو درج ذیل کی تصدیق شدہ نقول مہیا کی جائیں گی۔
(الف) کمپنی کا تازہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن۔
(ب) کمپنی کا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن۔
(ج) کمپنی کا کاروبار کے آغاز کا سرٹیفکیٹ (صرف پبلک کمپنی)۔

That PAIR be provided with written instructions for establishment of each new account

کہ PAIR کو ہر نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تحریری ہدایات فراہم کی جائیں گی

That the Company give PAIR a list of the names of the Directors, Secretary and other officers of the Company and advise PAIR in
writing of any changes that may take place and PAIR shall be entitled to act upon the information so given.

کہ کمپنی PAIR کو اپنے ڈائریکٹرز، سیکرٹری اور دیگر افسران کی ایک فہرست دے گی اور رونما ہونے والی کسی تبدیلیوں پر PAIR کو تحریری ہدایت جاری کرے گی اور PAIR اس طرح دی گئی معلومات پر عمل کا حق

That this Resolution be communicated to PAIR and shall constitute the Company's mandate to PAIR to remain in force until revoked by notice in writing so PAIR signed by the Chairman or any Director or the Secretary acting or purporting to act on behalf of the company and for this purpose any instruction varying or purporting to vary the Mandate's contained in these Resolution shall be deemed as revocation."

کہ یہ قرارداد PAIR تک پہنچائی جائے گی اور اسے کمپنی کی طرف سے PAIR کو اجازت کی حیثیت حاصل ہوگی کہ اس وقت تک نافذ رکھے جب تک کہ PAIR کو ایسی تحریری اطلاع کے ذریعے اسے واپس نہ لے لیا جائے جس پر کمپنی کی طرف سے چیئرمین یا کسی ڈائریکٹر یا سیکریٹری کی طرف سے دستخط ہو اور اس مقصد کے لیے کسی ہدایت کے لیے اس قرارداد کو تین سہما جائے گا۔

We also Certify that the specimen signature recorded hereunder are correct.

ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ذیل میں موجود دستخط کا نمونہ درست ہے۔

Name of Persons Authorised to Sign دستخط کے مجاز افراد کے نام	Official Position دستخط کا نمونہ	Specimen Signature دفتری عہدہ

The statement of accounts, advice and other communication be mailed to _____

اکاؤنٹس کے گوشوارے، ہدایات اور دیگر پیغامات کو میل کیے جائیں گے۔

Chairman _____ Directory / Secretary _____
چیئرمین ڈائریکٹر / سیکریٹری

Dated this _____ day of _____
تاریخ بروز

Certified documents enclosed منسلک تصدیق شدہ دستاویزات

- List of Directors on form 29 فارم 29 پر ڈائریکٹرز کی لسٹ
- Signature Card(s) دستخط کارڈ (ز)
- Copy of Board Resolution بورڈ کی قرارداد کی نقل
- Copies of CNICs/Passports of Authorized Signatures / پاسپورٹس کے مجاز دستخط CNICs
- Copy of Certificate of Incorporation سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کی نقل
- Memorandum & Articles میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز
- Certificate of Commense Business, if required. آٹاؤنڈ کاروبار کا سرٹیفکیٹ، اگر درکار ہو

Section D Partnership Account پائٹنرشپ اکاؤنٹس سیکشن ڈی

We the undersigned being the present partner in the firm _____

_____ Located / registered at

_____ Hereby by request

And authorize PAIR Investment Company Limited (PAIR) to open and / or continue an account in the name of our said firm in connection in with any dealing between the firm and PAIR and, until any one of us shall give you notice in writing to the contrary to accept and act upon any instruction signed by any (one / two / all) of us and / or jointly / signed by:

_____ ہم، زیر دستخطی بحیثیت فرم میں موجودہ پارٹنر بنام واقعہ ار جیٹ ڈی، مقام

_____ ہم، زیر دستخطی بذریعہ ہذا

PAIR انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ (PAIR) کو ہماری مذکورہ فرم اور PAIR کے مابین کسی لین دین کے حوالے سے کوئی اکاؤنٹ کھولنے یا موجودہ اکاؤنٹ جاری رکھنے کی درخواست کرتے ہیں اور آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ جب تک ہم سے کسی (ایک / دو / سب) اور ایام مشترکہ میں سے

Mr. _____ Mr. _____

Whose specimen signatures are appended hereto in connection with such account.

Upon any partner seasing to be a member of the Firm by death or otherwise you may, until you receive notice in writing to the Contrary from any of us or the legal personal representative or trustees of any us, treat the surviving or continuity partners for the time being as having full power to carry on the business of the firm and to deal with its assets as if freely as if there had been no change in its dissolution of the Firm.

اور اس پر عمل درآمد کریں، جن کے ایسے اکاؤنٹ کے حوالے سے دستخط کے نمونے یہاں منسلک کیے گئے ہیں۔ کسی پارٹنر کے اس کی وفات کی صورت میں یا بصورت دیگر، آپ، جب تک آپ کو ہم میں سے کسی، یا قانونی ذاتی نمائندے یا کسی طرف سے یا ہم میں سے کسی کے ٹرسٹیز کی طرف سے اس کے برعکس تحریری نوٹس موصول نہ ہو جائے، آپ فی الوقت بقید حیات یا جاری پارٹنرز کو فرم کا کاروبار چلانے اور اس کے اثاثہ جات کے ساتھ اسی طرح آزادانہ عہدہ برآہونے کے اختیارات کا حامل سمجھا جائے، جیسے فرم کی ملکیت میں تبدیلی سے پہلے ہوتے۔

Signature of Partner	پارٹنر کے دستخط	Signature of Partner	پارٹنر کے دستخط
Signature of Partner	پارٹنر کے دستخط	Signature of Partner	پارٹنر کے دستخط
Dated this _____ day of _____	بتاریخ _____ بروز _____		
Documents Enclosed	<input type="checkbox"/> Copy of Partnership Deed	<input type="checkbox"/> Copy of Registration Certificate	
منسلک دستاویزات	پارٹنرشپ ڈیڈ کی نقل	رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی نقل	
<input type="checkbox"/> Signature Cards	<input type="checkbox"/> Copies of CNICs/Passports		
دستخط کارڈز	CNICs/پاسپورٹس کی نقول		

Section E Club, Society, Association or Trust Account سیکشن ای کلب، سوسائٹی، ایسوسی ایشن یا ٹرسٹ اکاؤنٹ

Resolution of Management Committee:

مینیجمنٹ کمیٹی کی قرارداد:

We hereby certify that at a meeting of the _____

(Insert "Management Committee" or as the case may be)

(”مینیجمنٹ کمیٹی“ یا حسب معاملہ اندراج کریں)

of _____

(Insert name of Club / Society / Association / Trust)

(کلب / سوسائٹی / ایسوسی ایشن / ٹرسٹ کا نام درج کریں)

held on the _____ day of _____, it was

کے اجلاس منعقدہ بمقام

بتاریخ _____

20 میں درج ذیل قرارداد منظور کی گئی:

“Resolved:

1. That an account be opened in the name of _____ with PAIR Investment Company Limited (PAIR) in connection with dealing between the Club / Society / Association / Trust and PAIR and that PAIR be and is hereby empowered to accept and act upon any instruction signed or made on behalf of the Club / Society / Association / Trust by.

قرارداد پیش کی جاتی ہے:

- 1- اور PAIR انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے مابین ایک اکاؤنٹ کلب / سوسائٹی / ایسوسی ایشن / ٹرسٹ اور PAIR کے مابین کسی لین دین کے لیے قائم کی جائے اور یہ کہ PAIR کو بذریعہ اختیار دیا جاتا ہے کہ کلب / سوسائٹی / ایسوسی ایشن / ٹرسٹ کی طرف سے درج ذیل افراد کی دستخط کردہ ہدایات قبول کریں اور ان پر عمل درآمد کریں:

(insert “any two of the office bearers & countersigned by secretary for the time being” or otherwise as required) and to act on any instruction given by the persons so authorized with regards to any matter or relation to any transaction of the Club / Society / Association / Trust.

(”فی الوقت کسی دو دفتری عہدے داروں کے نام بیکٹری کے تصدیقی دستخط کے ساتھ“ یا بصورت دیگر داخل کریں) جنہیں کلب / سوسائٹی / ایسوسی ایشن / ٹرسٹ کے کسی لین دین کے حوالے سے اختیار یا تصدیقی فرم کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے درکار ہو۔ کہ PAIR کو تحریری شکل میں دستور، قوانین اور ذیلی قوانین، ٹرسٹ ڈیڈ اور دفتری عہدے داروں / ٹرسٹیز کی فہرست کی ایک نقل مہیا کی جائے اور اس حوالے سے رد و نامہ ہونے والی کسی تبدیلیوں کی بیکٹری کی طرف سے تحریری اطلاع دی جائے اور یہ کہ اسے ایسی کسی اطلاع پر عمل کا حق دار نہیں پایا جائے۔

2. That PAIR be furnished with a copy of Constitution, Rules and Bye-Laws, Trust Deeds and a list of the name of the office bearers / trustees, and be time to time informed by notice in writing under the head of the Secretary of any changes which may take place therein and to be entitled to act upon any such notice.

2- کہ مذکورہ ناموں والے افراد کو بذریعہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ایسی تمام کارروائیاں، معاہدے اور امور سرانجام دیں جو مذکورہ مقاصد کی انجام دہی کے ضروری یا واقعاتی ہوں اور ایسے تمام ضروری تمسکات اور دستاویزات پر دستخط کریں جو PAIR کے ساتھ یا حق میں درکار ہوں اور کمیٹی کی مہر سے متعلق کمیٹی کے آرگیکلر آف ایسوسی ایشن کے ضوابط سے مشروط، کمیٹی کی طرف سے کسی بھی یا تمام تمسکات اور دستاویزات پر مہر لگائیں اور عملی شکل دیں۔

2. That this Resolution be communicated to PAIR and remain force until revoke by notice in writing to PAIR signed by the Chairman or the Secretary / Trustees acting or purporting to act on behalf of the Society / Club / Association / Trust and

Certified that the above Resolution was entered in the Minutes Book of the Club / Society / Association / Trust, was signed by the Chairman, and is in accordance with the Constitution, Rules and Bye-Laws, Trust Deeds, of the Club / Society / Association / Trust, and that the specimen signature record hereunder are correct.

تصدیق کی جاتی ہے کہ مندرجہ بالا قرارداد کلب / سوسائٹی / ایسوسی ایشن / ٹرسٹ کی کارروائی کی کتاب میں درج کی گئی تھی اور چیئرمین کی طرف سے اس پر دستخط کیے گئے تھے اور یہ کلب / سوسائٹی / ایسوسی ایشن / ٹرسٹ کے دستور، قوانین اور ذیلی قوانین، ٹرسٹ ڈیڈز کے مطابق ہے اور ذیل میں موجود دستخط کے نمونوں کا ریکارڈ درست ہے:

Name of Persons Authorized to Sign دستخط کے مجاز افراد کے نام	Official Position دفتری عہدہ	Specimen Signature دستخط کا نمونہ

Chairman _____
چیئرمین

Secretary _____
سیکرٹری

Dated this _____ day of _____
بتاریخ _____ روز _____

Documents Enclosed Copy of Constitution, Rules and Bye-Laws, Trust Deed List of Office Bearers/Trustees
منسلک دستاویزات دستور، قوانین اور ذیلی قوانین، ٹرسٹ ڈیڈز کی نقل دفتری عہدے داروں اور سٹیز کی فہرست

Copy of Resolution Signature Cards Copies of NICs/Passport of Authorized signatories
 دستخط کے مجاز افراد کے NICs/پاسپورٹ کی نقل

Certificate of Registration
رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ

Terms and Conditions

شرائط و ضوابط

- COI issued by PAIR are rupee dominated Registered Certificate of Investment authorized to be issued pursuant to the permission of SPB. -1
انویسٹمنٹ (COI) روپے کی مالیت میں رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ ہوگا جسے ایس بی پی کی اجازت کے بعد جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔
- The COI will be issued in "registered" form -2
COI "رجسٹرڈ" شکل میں جاری کیا جائے گا۔
- PAIR may at its discretion determine the minimum amount of initial investment in COI from time to time. However, there is no cap as to the maximum amount of investment. -3
PAIR اپنی صوابدید پر وقتاً فوقتاً COI میں سرمایہ کاری کی ابتدائی رقم کی کم از کم مالیت کا تعین کر سکتا ہے۔ تاہم سرمایہ کاری کی زیادہ سے زیادہ رقم کی کوئی بالائی حد نہیں ہے۔
- The minimum maturity period to issue a COI will be of 30 days. -4
کسی COI کو جاری کرنے کے لیے میچورٹی کی کم از کم مدت 30 دن ہوگی۔
- The COI will be encashed on maturity against surrender of the original COI duly discharged under the signatures of the authorized signatory(ies) of the registered holders of the COI. Payment of the encashment value of the COI shall be made by a cross cheque in favour of the registered holder(s) and delivered to the bearer of the COI. However, upon specific written instructions, the cheque may be sent by courier to the registered address of the registered holder or remitted to a designated bank account of the registered holder(s). -5
میچورٹی کی مدت پوری ہونے پر COI کے رجسٹرڈ مالکان کے مجاز دستخط کنندہ (کنڈنگان) کے دستخطوں کے تحت باضابطہ ادا شدہ اصل COI سے دستبرداری پر COI کیش کیا جائے گا۔ COI کی نقد مالیت کی ادائیگی رجسٹرڈ مالکان کے نام کراس چیک کی شکل میں کی جائے گی اور اسے COI کے حامل کے حوالے کیا جائے گا۔ تاہم مخصوص تحریری ہدایت پر چیک کوریئر کے ذریعے رجسٹرڈ مالکان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جاسکتا ہے یا رجسٹرڈ مالک (مالکان) کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں بھی رقم منتقل جاسکتی ہے۔
- PAIR may at its sole discretion allow encashment of COI prior to the stipulated maturity period, subject to such conditions as to notice and/or charges as may be -6
PAIR اپنی صوابدید پر میچورٹی کی مقررہ مدت سے پہلے بھی COI کیش کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جو اس حوالے سے PAIR کے طے کردہ

7. For COI(s) more than 30 days; if there is a premature withdrawal the interest rate will be reversed one slab backward of that particular investment period and that rate would be applicable on the accrued days.

30 دن سے زائد مدت والے COI(s) کے لیے، اگر قبل از ميعاد رقم نکالی جائے تو سرمایہ کاری کی اس مخصوص مدت کے لیے منافع کی شرح ایک سلیب پیچھے کر دی جائے گی اور یہ شرح جمع شدہ دنوں پر قابل اطلاق ہوگی۔

8. Each Request for Purchase of COI must be accompanied by cheque, demand draft or payorder in favour of "PAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED" duly crossed, for the full value of the COI requested to be purchased. The COI will be issued and delivered, in the case of cheque, payorder or demand draft, after realization of proceeds.

COI کی خریداری کی ہر درخواست کے ہمراہ "PAIR" انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے نام خریداری کے لیے مطلوب COI کی مکمل مالیت کا باقاعدہ کراس شدہ چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آرڈر لازماً منسلک ہونا چاہیے۔ چیک، پے آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ کی صورت میں رقم موصول ہونے کے بعد COI جاری اور ڈیلیور کیا جائے گا۔

9. Duplicate Certificates in lieu of lost, stolen, misplaced or mutilated COI may be issued at the discretion of PAIR. In the event of loss or theft, such duplicate may be issued against submission of satisfactory proof to the effect and completion of such formalities as may be prescribed by PAIR; and in the case of mutilation, against surrender of the original COI. Further PAIR may require an appropriate indemnity to be provided in its favour.

PAIR اپنی صوابدید پر گم شدہ، چوری شدہ، غلط جگہ رکھے یا کٹے پھٹے COI کے بدلے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹس جاری کر سکتا ہے۔ گم شدگی یا چوری کی صورت میں، ایسے ڈپلیکیٹ اطمینان بخش ثبوت جمع کرانے یا PAIR کی طرف سے مطلوب رسمی کارروائیوں کی تکمیل پر اور کٹے پھٹے ہونے کی صورت میں اصل COI سے دستبرداری کے بدلے جاری کیے جاسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں PAIR اپنے حق میں نقصان کی تلافی کا ایک مناسب ضمانت نامہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

10. Subject to applicable regulations, PAIR may at its discretion accept the COI as collateral security for financial facilities extended by PAIR to the registered holder(s) or to any third party. PAIR will not be obliged to recognize any third party security or other interest in the COI.

قابل اطلاق ضوابط کی شرط پر، PAIR اپنی صوابدید پر PAIR کی طرف سے اپنے رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ ہولڈر (ز) یا کسی تھرڈ پارٹی کو مالیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے COI کو بطور مالیاتی ضمانت قبول کر سکتا ہے۔ PAIR کسی تھرڈ پارٹی کی سیکورٹی یا COI میں کسی دیگر مفاد کو تسلیم کرنے کا پابند نہیں ہے۔

11. PAIR is exclusively responsible for repayment of principal amount of COI and payment of the return thereon in accordance with PAIR's Scheme for COI and these Rules (as modified from time to time) and the same is not guaranteed by the Government of Pakistan.

COI-PAIR کی اصل رقم کی واپسی اور PAIR کی پیمنٹ اسکیم برائے COI قوانین (وقتاً فوقتاً قابل ترمیم) کے مطابق اس پر منافع کی ادائیگی کے لیے تنہا ذمہ دار ہے اور یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ضمانت یافتہ نہیں ہے۔

12. We accept that PAIR reserves the rights to modify, amend and change these Terms and Conditions from time to time. The revised or modified Terms and Conditions will become effective upon notice being given to us, such notice being deemed to have been properly given, if the revised terms and conditions are displayed or available at the counter of PAIR for a period of 15 days from the date to revision.

ہم قبول کرتے ہیں کہ PAIR ان شرائط و ضوابط میں وقتاً فوقتاً ترمیم، اصلاح اور تبدیلی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نظر ثانی یا ترمیم شدہ شرائط و ضوابط ہماری طرف سے نوٹس دیے جانے پر مؤثر سمجھے جائیں گے، ایسا نوٹس ترمیم کی تاریخ سے 15 دن کی مدت کے لیے ترمیم شدہ شرائط و ضوابط PAIR کے کاؤنٹر پر ڈسپلے یا دستیاب ہونے پر درست طریقے سے دیا گیا تصور کیا جائے گا۔ ہم بذریعہ COI یا شرائط و ضوابط کی پیروی میں PAIR کے خلاف کسی بھی یا تمام دعووں سے دست بردار ہوتے ہیں، ماسوائے اس کے کہ ایسا دعویٰ PAIR کی طرف سے فراڈ یا دانستہ بے ضابطگی پر مبنی ہو۔ PAIR کی طرف سے ان شرائط و ضوابط کی تشریح حتمی اور ہم سب پر لاگو ہوگی۔ ہم نے رجسٹریشن اور PAIR کے COI کی خریداری کے لیے مذکورہ شرائط و ضوابط کے ایک ٹوکن کے طور پر درخواست پر دستخط کر دیے ہیں اور ہم نے ایسے دستخط کرنے سے پہلے شرائط و ضوابط کو پڑھا اور سمجھ لیا ہے۔

We hereby waive any and all claims we may have against. PAIR pursuant to COI or the Terms and Conditions unless such claim is based on fraud or willfull misconduct of PAIR. PAIR's interpretation of these terms and conditions shall be final and binding on us. We have signed the application for registration and purchase of COI of PAIR as a token of aforesaid Terms and Conditions and we have read and understood the Terms and Conditions prior to such signing.

13. While PAIR will endeavor to provide the best standard of service. PAIR will assume no liability nor responsibility for consequences arising out of the interruption by acts of God, riots, civil commotion, insurrection, wars (whether declared or not), strikes and lockouts, or any other causes beyond its control.

13- جہاں PAIR خدمت کا اعلیٰ ترین معیار کرنے کی کوشش کرے گا، PAIR قدرتی آفات، بلوں، شہری بد امنی، بغاوت، جنگوں (اعلانیہ یا غیر اعلانیہ)، پھٹالوں اور تالا بندی، یا اس کے کنٹرول سے باہر کسی دیگر وجوہات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی تعطل کے نتائج کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا، نہ ہی ذمہ داری قبول کرے گا۔

14. PAIR is subject to, and its liability for payment is governed by, all applicable local laws, decrees, regulations, rules, order, circulars, and instructions issued by competent governmental and other regulatory authorities in Pakistan.

14- PAIR اور ادائیگی کے لیے اس کی ذمہ داری تمام لاگو مقامی قوانین، پاکستان میں مجاز سکاری اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے جاری کردہ ڈگریز، ضوابط، قوانین، حکم، سرکلرز اور ہدایات سے مشروط اور ان کے تابع ہے۔

15. In case of the COI holder(s) have authorised automatic re-investment of encashment proceeds on maturity of COI, at the time of registration or at any other time, PAIR should receive notice or intended withdrawal of COI at least three clear working days prior to the maturity date. In the absence of such notice, COI alongwith profit/return will be automatically encashed and re-invested for like periods on like terms at prevailing expected rate of profit, The COI issued to the registered holder(s) shall continue to represent the re-invested funds upon the same terms and conditions.

15- ایسی صورت میں COI ہولڈر (ز) نے رجسٹریشن کے وقت یا کسی اور وقت COI کی میچورٹی پر نقد آمدنی کی خود بخود دوبارہ سرمایہ کاری کا اختیار دے رکھا ہو، PAIR کو میچورٹی کی تاریخ سے کم از کم تین کاروباری دن بعد پہلے COI سے رقم نکالنے کے ارادے کا نوٹس موصول ہو جانا چاہیے۔ ایسے نوٹس کی عدم موجودگی میں، COI مع منافع ایفٹ خود بخود دیکش کر لیا جائے گا اور موجودہ متوقع شرح منافع اور سابقہ میعادوں اور شرائط پر دوبارہ سرمایہ کاری کردی جائے گی۔ رجسٹرڈ ہولڈر (ز) کو جاری شدہ COI ان ہی شرائط و ضوابط پر بدستور دوبارہ سرمایہ کاری شدہ فنڈز کی نمائندگی کرتا رہے گا۔

16. Affidavit or declaration for exemption from Zakat, if applicable, should be provided to PAIR at the time of investment, but in no case later than one month before the first of Ramazan, failing which Zakat will be deducted in the prescribed manner. The determination of PAIR as to whether Zakat is deductible or not will be conclusive.

16- زکوٰۃ سے استثنیٰ کا ایک حلف نامہ یا اقرار نامہ، اگر اطلاق ہوتا ہو، سرمایہ کاری کے وقت PAIR کو، لیکن یکم رمضان سے کم از کم ایک ماہ پہلے فراہم کیا جانا چاہیے، جس میں ناکامی کی صورت میں مقررہ طریقے سے زکوٰۃ منہا کر لی جائے گی۔ زکوٰۃ کے قابل کٹوتی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں PAIR کا تعین حتمی ہوگا۔

17. Any notice of demand or other communication by PAIR may be sent to the registered holder(s) either personally or by mail or otherwise at the address shown in the registration application or at any address notified in writing by the registered holder(s) to PAIR. Any such notice demand, or other communication shall be deemed to have been duly delivered and received by the registered holder(s) at the time it would have been so delivered in the ordinary course of events.

17- PAIR کی طرف سے رجسٹرڈ ہولڈر (ز) کو اس کی رجسٹریشن کی درخواست پر موجود پتے یا رجسٹرڈ ہولڈر (ز) کی طرف سے PAIR کے پاس تحریری طور پر اطلاع شدہ کسی پتے پر ذاتی یا بذریعہ ڈاک ڈییمانڈ کا کوئی نوٹس یا کوئی اور پیغام بھجوایا جاسکتا ہے۔ ایسا ڈییمانڈ کا نوٹس یا کوئی دیگر پیغام اتنے وقت کے بعد ترسیل شدہ اور رجسٹرڈ ہولڈر (ز) کو موصول شدہ تصور کیا جائے گا، جتنے وقت میں عمومی حالات میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔

18. Applicant / registered holder (s) of COI warrant and assume full responsibility for accuracy of all information given in the Application form for registration and otherwise from time to time.

18- COI کا درخواست گزار رجسٹرڈ ہولڈر (ز) رجسٹریشن کے لیے درخواست فارم میں یا بصورت دیگر وقتاً فوقتاً دی گئی تمام معلومات کے درست ہونے کی ضمانت دیتا ہے اور مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہے۔

19. A deposit/instrument, remains inoperative for 10 years, shall become unclaimed and will be surrendered to the State Bank of Pakistan.

19- 10 سال کے لیے غیر فعال رہنے والا کوئی ڈپازٹ / دستاویز بلا دعویٰ ہو جائے تو اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔

SIGNATURE: _____



PAIR Investment Company Limited
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Information Form
For Institutional Customers

1. Name of Entity: _____

2. Country of Incorporation: _____

3. Place of Business: _____

4. Registered Address: _____

City _____ State/Province _____ Country _____

5. Mailing Business Address: _____

Postal Code: _____ City _____ State / Province _____

Country: _____

6. Alternative Correspondence Address (if any): _____

Postal Code: _____ City _____ State / Province _____

Country: _____

7. Telephone Numbers:	Country Code	Area/City Code	Number
	_____	_____	_____

8. Fax Number:	_____	_____	_____
----------------	-------	-------	-------

9. Do you intend to set up standing instructions for this account to a beneficiary outside of Pakistan
(Tick the Correct Option) Yes No

10. If answer of the question # 9 is yes, please provide the following information regarding beneficiary:

	Beneficiary Account	Country
a.	_____	_____
b.	_____	_____
c.	_____	_____

11. Does any of the shareholder/partners/directors (with more than 10% holdings in the company) is a US Citizen, US Resident or Holds US Permanent Resident Card (Green Card)?
(Tick the Correct Option) Yes No

(if answer of the question 11 is yes, please answer question 12 and 13, otherwise mark N/A)

12. Name of the US Persons holding more than 10% shares (US Substantial Business Owners-SBOs)

a. Name _____ Address _____
US Tax Identification Number : _____

b. Name _____ Address: _____



US Tax Identification Number: _____

Name _____ Address: _____

13. Whether you are registered with Internal Revenue Service (IRS) of United States of America as Tax Payer

(Tick the correct option) Yes No

If the answer to question 13 is yes, please answer question 14, otherwise, mark NA)

14. U.S Taxpayer's Identification Number (TIN):

15. Whether the company has given Power of Attorney / Third Party Mandate to someone:

(Tick the correct option) Yes No

If the answer to question 15 is yes, please provide the following information regarding the person to whom mandate has been given:

Name or Title: _____

Mailing / Business Address: _____

Postal Code: _____ City _____ State / Province _____

Country: _____

For Financial Institution Only:

16. Are you registered with IRS under FATCA: (Please mark the correct option)

(Tick the correct option) Yes No

(If the answer of question 15 is yes, please answer question 16, otherwise go to question 17)

17. Please provide your Global Intermediary Identification Number (GIIN): _____

18. Have you provide the filled Form W-8EBEN or W-9 (as applicable) : _____

Declaration:

We hereby confirm that the information provided above is true, accurate and complete,. Further, we undertake to notify the Company within 30 calendar days if there is a change in any information provided to the company;

We have also read and signed the enclosed "letter of consent regarding sharing and disclosing our personal and other information".

Authorized Signatories:

Name	Signature
------	-----------

1.

2.

3.

4.

Date: _____

To,

Unit Head Liability,

Pair Investment, Karachi,

Subject: Consent Letter for E-statement

Dear Sir,

I, _____ Having CNIC Number _____

request you to send my COI statement and any other Investment correspondence at my email address.

For this purpose, the e-mail address given below shall be used instead of delivery of the physical statement.

Email: _____

Term and Condition

01) These Terms & Conditions are in addition to and from integral part of the regular Terms & Conditions of account opening and its operation. The bank may alter or amend these Terms & Conditions at its sole discretion.

02) It is sole responsibility of Account Holders to ensure that the provided e-mail address is correct and keep the above-mentioned e-mail address active, functioning, valid; and secret in all respects.

03) Any change in e-mail address or any request for discontinuation of this facility will be immediately informed by Account Holder to the PICL. Failure to receive any e-statement/ confirmations due to change of e-mail address(es) not communicated to the Bank will not be considered as reason for claiming non-receipt of the e-statement/ confirmations.

04) COI Holder agrees to keep the Bank indemnified against all actions, proceedings, liabilities and claims, cases, damages, costs and expenses in relation to or arising out of the Bank accepting this request and transmitting e-statements and information through electronic means.

I/ We confirm having read and understood the above Terms & Conditions.

Signature: _____

Key Fact Statement (KFS) for Certificate of Investment (COI)

PAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED Head Office 17 th Floor, Ocean Tower, G-3, Block-9 Clifton, Main Clifton Road Karachi		Date	
		IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering Placing a COI with Pair Investment Company Limited. It is available in English and the Urdu version can be provided upon request. You may also use this document to compare COIs offered by other banks / financial institutions. You have the right to receive KFS from other banks for comparison.	
Account Types & Salient Features: This information is accurate as of the date above. Services, fees, and markup rates may change on a time-to-time basis. For updated fees/charges, you may visit our website or visit our Head Office			
Particulars		Conventional	
		(Certificate of Investment) (COI)	
Currency (PKR, US, EUR, etc.)		PKR	
Minimum Balance for Account (if any, provide the amount)	To open	Rs,20,000/=	
	To keep	Rs,20,000/=	
Account Maintenance Fee (if any, provide the amount)		NIL	
Is Profit Paid on COI (Yes/No)		YES, Profit is paid on a monthly basis or on Maturity (as per instructions). Subject to deduction of applicable taxes	
Indicative Profit Rate. (%) *		Profit rates may change at regular intervals, For Update rates, you may visit our Website (www.pairinvestment.com) or Visit our Office.	
Profit Payment Frequency (Daily, Monthly, Quarterly, Half yearly, and yearly)		Monthly, Quarterly, Half Yearly, or yearly (Depending on the tenure of investment)	
An example of Profit Calculation may be		$(P \times I) / 365/366 \text{ days} \times \text{Number of Days of COI}$ Amount of investment (P), times the interest rate (I). Divide the answer by 365 or 366 days, being the number of days in a year. Then Divide it into the Number of days of COI. The resultant number would be the profit, without the applicable tax. Profit will be paid net of applicable tax.	
Premature/ Early Encashment/Withdrawal Fee (If any, provide amount/rate)		No return/profit shall be paid if a COI is redeemed before the completion of one month, as the minimum holding period for any investment is 30 days, as prescribed by the State Bank of Pakistan. For COIs held for more than 30 days, in the case of premature or early encashment, a deduction of 100 basis points (bps) will be applied to the actual profit rate. The revised rate will then be applied to the actual number of accrued days	

Services	Modes	Service Charges
Remittance (Local)	Banker Cheque / Pay order/ RTGS / IBFT	Zero
COI Statements / Summary	Annual / Half yearly/ Duplicate	Zero
Funds Transfer	ADC/ Digital Channels, Others	Zero
Termination of COI	Customer request	Zero

You Must Know


<p>Requirements for establishing a COI relationship: To establish a certificate of Investment relationship, you will need to satisfy certain identification requirements as per regulatory instructions and as per PAIR's internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details.</p>	<p>Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of the Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of the last ten years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant regulated entity, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact Mr. Muhammad Anus, whose contact details are below.</p>
<p>Cheque Bounce: You should exercise utmost prudence while writing a cheque as a bounced cheque can jeopardize the relationship.</p>	<p>Closing this account: Upon approaching maturity of your COI. You must intimate us about your future intentions regarding the funds deposited with us i.e. either you want to continue the relationship by rolling over the deposit for another term or you like to withdraw the funds. In case of withdrawal of funds, your relationship would be considered terminated. For renewing the relationship subsequently, fresh documentation has to be initiated.</p>
<p>Safe custody: Safe custody of COI (certificate) is your responsibility. PAIR Investment Company Limited Cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. Please note that PAIR Investment Company Limited will never ask you on phone or sent a text to you to provide personal information</p>	<p>How can you get assistance or make a complaint?</p>
<p>Record updation: Always keep profiles/records updated with PAIR Investment Company Limited to avoid missing any significant information.</p>	<p>Contact Information</p> <p>Head of Compliance PAIR Investment Company Limited Telephone Number: 021-35829647: PABX: Tel: 021- 3582 9621 (4 Lines) Ext. 647 Fax: 021 - 3530 3526 17th Floor Ocean Tower G3, Block-09 Main Clifton Road Karachi Pakistan. Karachi (75600) – Pakistan Email Address: complain@pairinvestment.com</p> <p>If you are not satisfied with our response, you may contact:</p> <p>Banking Mohtasib Pakistan Shaheen Complex 5th Floor, M R Kiyani Road, Karachi</p>
<p>What happens if you do not use this account for a long period? Upon maturity of a COI, the COI is either rolled over for a new tenor or is matured, depending on the instruction received from the depositor. If the COI is matured and funds are withdrawn then the relationship is terminated. For any future placement of a new deposit (and subsequent issuance of a new COI), fresh documentation would be required.</p>	

I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTANDING THIS KEY FACT STATEMENT

Customer Name:			
Date:			
Mandate of account:	Single/Joint/Either or Survivor		
Address			
Contact No.:			
Email Address			
Customer Signature		Signature Verified	

PAiR Investment Company Limited.

SPECIMEN SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIALS



Account No. _____
(For Company Use)

Title of Account _____

1.	2.
Signature:	Signature:
Name:	Name:
Designation:	Designation:
3.	4.
Signature:	Signature:
Name:	Name:
Designation:	Designation:

UNUSED SIGNATURE BOXES SHOULD BE MARKED "VOID"

TO OPERATE Singly Jointly Special Instructions

For Company Use Only

Checked by Date

Scanned by Date

Approved by Date